

کل نمبر: 10: اُردو (پنجم) ٹیسٹ نمبر 1 وقت: 10 منٹ

پانچواں مہینا، پہلا ہفتہ، پانچواں دن	اسلیبس: سبق (۱۷): سوچیں اور بتائیں، کیا آپ جانتے ہیں، نظم مکمل، پٹھریں اور بتائیں، ہم نے سیکھا قواعد: اسم ضمیر رسید: بابت وصولی رقم
--------------------------------------	---

سوال نمبر 1: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ (3)

1- اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں؟

(الف)	سچ بولنا	(ب)	وعدہ پورا کرنا	(ج)	ہر کام محنت سے کرنا	(د)	تمام دوست
-------	----------	-----	----------------	-----	---------------------	-----	-----------

2- متوازن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں:

(الف)	پڑھائی اور کھیل	(ب)	پڑھائی اور کھانا
(ج)	پڑھائی اور سونا	(د)	پڑھائی اور شرارتیں کرنا

3- ہمیشہ سچ بولو اور کہلاؤ:

(الف)	سچے	(ب)	اچھے	(ج)	بچے	(د)	بُرے
-------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------

4- ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟

(الف)	پتھریلے	(ب)	صاف	(ج)	نیکی کے	(د)	ہمواری کے
-------	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----------

☆ درج ذیل اشعار پڑھ کر سوالوں کے جواب دیں۔

محنت کر کے جو ہیں کماتے
سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے
جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے
سب کو اپانچ وہ ہیں بناتے

5- جو محنت کر کے کماتے ہیں، وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں:

(الف)	آرام کرنا	(ب)	محنت کرنا	(ج)	ہمت کرنا	(د)	مدد کرنا
-------	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	----------

6- شاعر کے مطابق جو ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے وہ سب کو بناتے ہیں:

(الف)	اپانچ	(ب)	ذمہ دار	(ج)	نافرمان	(د)	نالائق
-------	-------	-----	---------	-----	---------	-----	--------

سوال نمبر 2: دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ (2)

(الف) تن درست اور چاق و چوبند رہنے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟

(ب) دوسروں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے سے پہلے خود کیا کرنا چاہیے؟

سوال نمبر 3: رسید بابت وصولی رقم لکھیں۔ (5)

کل نمبر: 10: اُردو (پنجم) ٹیسٹ نمبر 1 وقت: 10 منٹ

پانچواں مہینا، پہلا ہفتہ، پانچواں دن	اسلیبس: سبق (۱۷): سوچیں اور بتائیں، کیا آپ جانتے ہیں، نظم مکمل، پٹھریں اور بتائیں، ہم نے سیکھا قواعد: اسم ضمیر رسید: بابت وصولی رقم
--------------------------------------	---

سوال نمبر 1: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ (3)

1- اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں؟

(الف)	سچ بولنا	(ب)	وعدہ پورا کرنا	(ج)	ہر کام محنت سے کرنا	(د)	تمام دوست
-------	----------	-----	----------------	-----	---------------------	-----	-----------

2- متوازن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں:

(الف)	پڑھائی اور کھیل	(ب)	پڑھائی اور کھانا
(ج)	پڑھائی اور سونا	(د)	پڑھائی اور شرارتیں کرنا

3- ہمیشہ سچ بولو اور کہلاؤ:

(الف)	سچے	(ب)	اچھے	(ج)	بچے	(د)	بُرے
-------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------

4- ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟

(الف)	پتھریلے	(ب)	صاف	(ج)	نیکی کے	(د)	ہمواری کے
-------	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----------

☆ درج ذیل اشعار پڑھ کر سوالوں کے جواب دیں۔

محنت کر کے جو ہیں کماتے
سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے
جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے
سب کو اپانچ وہ ہیں بناتے

5- جو محنت کر کے کماتے ہیں، وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں:

(الف)	آرام کرنا	(ب)	محنت کرنا	(ج)	ہمت کرنا	(د)	مدد کرنا
-------	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	----------

6- شاعر کے مطابق جو ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے وہ سب کو بناتے ہیں:

(الف)	اپانچ	(ب)	ذمہ دار	(ج)	نافرمان	(د)	نالائق
-------	-------	-----	---------	-----	---------	-----	--------

سوال نمبر 2: دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ (2)

(الف) تن درست اور چاق و چوبند رہنے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟

(ب) دوسروں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے سے پہلے خود کیا کرنا چاہیے؟

سوال نمبر 3: رسید بابت وصولی رقم لکھیں۔ (5)